



رسول اللہ ﷺ (غزوہ) اوطاس کے سال تین (دن) کے لیے متعہ کی رخصت دی اور پھر اس سے منع فرما دیا

ایاس بن سلمہ اپنے والد سلمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ (غزوہ) اوطاس کے سال تین (دن) کے لیے متعہ کی رخصت دی اور پھر اس سے منع فرما دیا“
[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا]

شارع نے اجتماع و ہمیشگی، الفت و محبت اور خاندان بنانے کی غرض سے نکاح کو مسنون قرار دیا ہے اس لیے ہر وہ غرض و شرط جو نکاح کی اس حکمت کے خلاف ہو، باطل ہے؛ یہی وجہ ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے نکاح متعہ ہے کہ آدمی عورت سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے شادی کرے اس سلسلے میں غزوہ اوطاس کے سال رخصت دی گئی ہے یہ سوال اٹھتا ہے جری میں پیش آیا اور ضرورت کے تحت صرف تین دن کی اجازت دی گئی ہے پھر نبی ﷺ نے ہمیشہ کے لیے اسے حرام قرار دے دیا کیوں کہ اس میں بے وفائی، مفاسد و خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً نسبوں کا اختلاط، شرم گاہوں کو کرایے پر لینا اور ذوقِ سلیم اور طبیعتِ مستقیمہ کے لیے اذیت ناک ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58075>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

